



سوال

(53) دوران نماز سترہ کی کیا حیثیت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لاہور دفتر اہل حدیث سے محترم رحمۃ اللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ دوران نماز سترہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا مسجد کے اندر یا اس کے صحن میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے متعلق کئی ایک ایسے احکام ہیں جن کی پابندی انتہائی ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے ادا کرتے وقت سترہ کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ عمل کے لحاظ سے بھی اس کی مداومت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

"جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترہ کی طرف پڑھے، نیز اس سترہ کے نزدیک ہو کر اسے ادا کرے۔" (ابوداؤد الصلوۃ 698)

ایک روایت میں ہے قریب ہو کر نماز پڑھنے کی حکمت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ:

"مبادا شیطان اس کی نماز کو خراب کر دے۔" (ابوداؤد 695)

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

"تم سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دو اگر کوئی روکنے کے باوجود بزور گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سختی سے روکا جائے۔ کیوں کہ گزرنے والے کے ساتھ شیطان ہے۔" (صحیح مسلم: الصلوۃ 1130)

اس سترہ کے حجم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے ضرور سترہ رکھے اگرچہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔" (مسند امام احمد 1/162:

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو سترہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور بغیر سترہ کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ واضح رہے

کہ آپ کا امر وجوب کے لئے اور نہی تحریم کے لئے ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو تو وجوب کی بجائے استحباب کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ آپ کے امر کو وجوب کی بجائے استحباب پر محمول کیا جائے۔ پھر نہی سے مراد بھی نہی تحریمی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لئے سترہ بنانا واجب اور اس کے بغیر نماز ادا کرنا حرام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے اس پر مداومت کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ :

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید کے لئے باہر نکلتے تو نماز کے لئے ہتھوڑے نیزے کو اپنے سامنے گاڑ دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے۔ دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے، دوران سفر بھی آپ ایسا کرتے تھے۔" (صحیح بخاری: الصلوۃ، 494)

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں خود کو دیکھتی کہ چار پائی پر لیٹی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، میری چار پائی کو اپنے اور قبلہ کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ میں اس حالت میں آپ کے سامنے لیٹے رہنے کو ناپسند کرتی تو چار پائی کی پائنتی کی طرف سے کھسک کر محاف سے نکل جاتی۔" (صحیح بخاری: الصلوۃ، 508)

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تو مسجد کے کسی ستون کو آگے کرتے اور نماز پڑھتے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں مصحف کے قریب والے ستون کے پاس نماز پڑھتے اور فرماتے کہ :

"میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس کے پاس قصد نماز پڑھتے تھے۔" (صحیح بخاری: الصلوۃ، 502)

دوران سفر اگر کوئی دیوار ہوتی تو اسے سترہ بنالیا جاتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آپ نے اسے سترہ بنایا، دوران نماز بحری کا ایک بچہ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے لگا، آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگ گیا اور وہ بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا۔ (الوداؤد الصلوۃ، 708)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آسمان سے بھی سترہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی کو جو کہ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ستون کے قریب کر دیا، اور فرمایا کہ اس کی طرف نماز پڑھ۔ (صحیح بخاری تعلیقا کتاب الصلوۃ، باب الصلوۃ الی الاسطوانہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق حدیث ہے کہ وہ پالان کو اپنے اور قبلہ کے درمیان کرتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ (مصنف عبد الرزاق: حدیث نمبر 2374)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ مسجد حرام میں اپنی لٹھی گاڑھ لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ جمعہ کے دن سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بنو ابی معیط کے ایک نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے اس کو سینے پر مارا۔ (صحیح بخاری الصلوۃ، 509)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب مؤذن اذان دیتا تو کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو جاتے۔ اور جلدی جلدی ستونوں کے طرف بڑھتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح مغرب سے پہلے دو رکعت ادا کرتے۔ (صحیح بخاری الصلوۃ، 625)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ستونوں کا رخ اس لئے کرتے تھے تاکہ نماز کے لئے انہیں سترہ بنائیں۔ کیوں کہ وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے تھے۔ (فتح الباری 2/137:)

ان آثار سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھتے وقت سترے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ مسجد کے اندر بھی سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے کیوں کہ احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے۔ پھر متعدد روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انفرادی نماز میں ستونوں کا رخ کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود بھی یہی عمل تھا۔ جیسا کہ



بخاری کے باب الصلوٰۃ الی الاسطوانہ میں ہے، پھر اہل علم کا اختلاف ہے کہ مسجد حرام میں سترہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر مسجد کے اندر سترہ کا تصور نہ ہوتا تو اس اختلاف کی چنداں ضرورت ہی نہ ہوتی۔

ایک استثنائی صورت: اگر کوئی شخص نماز کھڑی ہونے کے بعد شامل ہوا ہے تو بقیہ نماز ادا کرنے کے لئے اسے تلاش سترہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس طرح کا لاحق مقتدی موجودہ ہیئت میں ہی نماز مکمل کرے اور نہ ہی پیشگی کسی سترہ کے بندوبست کی ضرورت ہے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے وقت ایک رکعت جماعت رہ گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا فرمائی، حالت قضائی میں ثابت نہیں ہو سکا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سترہ کا اہتمام کیا ہو۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 93